

Psa

Chapter 48

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 שִׁיר מִזְמוֹר לְבִי-קָרַח: נְדוּלָּה יְהוָה מֵאֵר בְּעִיר אֶלְהִינוּ הָר-
گیت زبور بنی قورح بڑا یہوواہ اور-ستائش-کے-قابل بہت شہر-میں ہمارے-خدا-کے پہاڑ
[H2022](#) [H0430](#) [H3966](#) [H3068](#) [H7141](#) [H4210](#)

קָדְשׁוֹ:
اُس-کی-قدسیت-کے
[H6944](#)

ہے۔میں شہر کے خدا ہمارے پہاڑ مُقَدَّس کا اُس ہے۔ لائق کے تعریف بڑی اور عظیم رب زبور۔ کا اولاد کی قورح گیت۔

2 יִפְהַ נֹרָה מְשׁוֹשׁ כָּל-הָאָרֶץ הָר-צִיּוֹן יִרְכְּתֵי צָפוֹן קְרִית יְמִלֵךְ רָב:
خوبصورت بلندی خوشی ساری زمین-کی پہاڑ صیہون اطراف شمال-کے شہر بادشاہ بڑے-کا
[H3303](#) [H5131](#) [H4885](#) [H3605](#) [H0776](#) [H2022](#) [H6726](#) [H3411](#) [H6828](#) [H7151](#) [H4428](#)

ہے۔شہر کا بادشاہ عظیم وہ ہے، ہی پہاڑ اُہی کا شمال دُورترین صیون کوہ ہے۔ ہوتی خوش سے اُس دنیا پوری ہے، صورت خوب بلندی کی صیون کوہ

3 אֱלֹהִים בְּאַרְמֹנֹתֶיהָ נֹדַע לְמִשְׁנֵב:
خدا اُس-کے-محلوں-میں آنا-گیا پناہ-کے-طور-پر
[H0430](#) [H0759](#) [H3045](#)

ہے۔ہوا ثابت گاہ پناہ کی اُس وہ ہے، میں محلوں کے اُس اللہ

4 כִּי-הִנֵּה הִמְלִכִים נֹעְדוּ עָבְרוּ יַחְדָּיו:
کیونکہ دیکھو بادشاہ جمع-ہوئے گزرے ایک-ساتھ
[H2009](#) [H4428](#) [H3259](#)

آئے۔لڑنے سے یروشلم کر ہو جمع بادشاہ دیکھو، کیونکہ

5 הִמְנֶה וְהָאֵן תִּמְהוּ נִבְהָלוּ נִחְפְּזוּ:
وہ دیکھا ایسے حیران-رہ-گئے گھبرا-گئے بھاگ-گئے
[H1992](#) [H7200](#) [H8539](#) [H0926](#) [H2648](#)

گئے۔بھاگ کر کھا دہشت وہ ہوئے، حیران وہ ہی دیکھتے اُسے لیکن

6 רַעְדָה אֲחֻזָּתָם שָׁם אָיִל כִּי־לָדָה:
کانپ پکڑی-انہیں وہاں درد جننے-والی-کی-طرح
[H0270](#) [H8033](#) [H3205](#)

لگے۔کھانے تاب و پیچ طرح کی عورت مبتلا میں زہ درد وہ اور ہوئی، طاری کیچی پر اُن وہاں

7 בְּרוּחַ קָדִים אֲנִישֵׁר אֲנִיּוֹת תְּרַשִּׁישׁ:
ہوا-سے پُورب ٹو-توڑتا-ہے جہازوں ترسیس-کے
[H7307](#) [H6921](#) [H7665](#) [H0591](#) [H8659](#)

دیا۔کر تباہ انہیں نے ٹو طرح اُسی ہے دیتی کر ٹکڑے ٹکڑے کو جہازوں شاندار کے ترسیس آندھی مشرقی طرح جس

8 כְּאִשֶּׁר אִשְׁמַעְנֶנּוּ כֵן רְאִינוּ בְעִיר- יְהוָה צְבָאוֹת בְּעִיר אֱלֹהֵינוּ אֱלֹהִים
 جیسے ہم نے سنا ویسے ہم نے دیکھا شہر میں شہر-میں ہواہ لشکروں کے شہر-میں ہمارے خدا کے خدا
 H8085 H7200 H3068 H0430 H0430 H0430

יְכוֹנְנָה עַד- עוֹלָם סֵלָה:
 قائم کرے گا- اُسے تک ہمیشہ سلاہ
 H5704 H5769 H5542

(سلاہ) گا۔ رکھے قائم تک ابد اُسے اللہ ہے، آیا صادق پر شہر کے خدا ہمارے الافواج رب دیکھتے دیکھتے ہمارے وہ ہے سنا ہے ہم کچھ جو

9 דְּמִינוּ אֱלֹהִים חֲסֵדָךְ בְּקֶרֶב הַיְכָלְךָ:
 ہم نے سوچا خدا تیری-شفقت کے-اندر تیرے-بیکل
 H1819 H0430 H7130 H1964

ہے۔ کیا خوض و غور پر شفقت تیری میں گاہ سکونت تیری نے ہم اللہ، اے

10 כְּשִׁמְךָ אֱלֹהִים כֵן הִתְהַלַּחְתָּ עַל- קְצוּי- אֶרֶץ צָדֵק מְלָאָה
 تیرے-نام کی-طرح خدا ویسے تیری-حمد پر چھوروں-تک زمین-کے راستبازی-سے بھرا-ہے
 H8034 H0430 H8416 H7099 H0776 H6664 H4390

יְמִינְךָ:
 تیرا-دائنا-باتھ
 H3225

ہے۔ رہتا بھرا سے راستی باتھ دہنا تیرا جائے۔ کی تک انتہا کی دنیا تعریف تیری کہ ہے لائق اس نام تیرا اللہ، اے

11 וַיִּשְׂמַח הָר- צִיּוֹן תִּגְלָלָהּ בְּנוֹת יְהוּדָה לְמַעַן מִשְׁפָּטֶיךָ:
 خوش-ہو پہاڑ صیہون شادمان-ہوں بیٹیاں یہوداہ-کی خاطر تیرے-فیصلوں-کی
 H8055 H2022 H6726 H1523 H1323 H3063 H4616 H4941

منائیں۔ خوشی باعث کے فیصلوں منصفانہ تیرے بیٹیاں کی یہوداہ ہو، شادمان صیون کوہ

12 סָבוּ צִיּוֹן וְהִקְפּוּיָהּ סָפְרוּ צִיּוֹן
 گھومو صیہون اور-گھيرو گنو اُس کے-برج
 H5437 H6726 H4026

لو۔ گن بُرج کے اُس کر چل ساتھ ساتھ کے فصیل کی اُس پھرو، گھومو گرد ارد کے صیون

13 נְשִׂיתוּ אֲלֵכֶם לְחֵילָהּ פָּסְגוּ אֶרְמוֹנוֹתֶיהָ לְמַעַן אֲתַדְרוּ: אֶתְרוּ:
 توجہ-دو اپنے-دلوں-کو اُس کی-فصیل-پر غور-کرو اُس کے-محلوں-پر تاکہ بیان-کرو پشت-کے لئے آنے-والی
 H7896 H2430 H6448 H0759 H4616 H1755 H0314

سکو۔ سنا کچھ سب کو نسل والی آنے تاکہ کرو معائنہ کا محلوں کے اُس دو، دھیان خوب پر بندی قلعہ کی اُس

14 כִּי וְזָה אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ עוֹלָם וָעֶד הוּא יְהוָה יְהוָה:
 کیونکہ یہ خدا ہمارا-خدا ہمیشہ اور-ابد وہ رہنمائی-کرتے-گا-ہماری
 H2088 H0430 H0430 H5769 H5703 H1931 H4192

گا۔ کرے رہنمائی ہماری تک ابد وہ ہے۔ ہی ایسا تک ہمیشہ خدا ہمارا اللہ یقیناً